



جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اسکو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندہری)

سورة النحل

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَتَىٰ أَمْرَ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

خدا کا حکم (یعنی عذاب گویا) آئی پہنچا تو (کافرو) اس لے لئے جلدی مت کرو۔

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (1)

یہ لوگ جو (خدا کا) شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے۔

يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

وہی فرشتوں کو پیغام دیکر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے۔

أَنْ أَأُنذِرُهُمْ أَنْتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2)

کہ (لوگوں کو) بتادو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو۔

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا

تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3)

اس کی ذات ان (کافروں) کے شرک سے اونچی ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ

اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4)

مگر وہ اس (خالق) کے بارے میں علانیہ جھگڑنے لگا۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا

اور چارپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔

لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ

ان میں تمہارے لئے جڑاؤل (جاڑے کا سامان) اور بہت سے فائدے ہیں

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5)

اور ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو۔

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6)

اور جب شام کو انہیں (جنگل سے) لاتے ہو اور جب صبح کو

(جنگل) چرانے لجاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا لِبَشَرِ الْأَنْفُسِ

اور (دور دراز) شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (7)

کچھ شک نہیں کہ تمہارے پروردگار نہایت شفقت والا مہربان ہے۔

وَالْحِجْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے (پیدا کئے) تاکہ تم ان

پر سوار ہو اور (وہ تمہارے لئے) رونق و زینت (بھی ہیں)

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)

اور وہ (اور چیزیں بھی) پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

اور سیدھا راستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں (وہ اس تک نہیں پہنچتے)

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9)

اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھا راستے پر چلا دیتا۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا

لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10)

جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی (شاداب ہوتے ہیں) جن میں تم اپنے چارپایوں کو چراتے ہو۔

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور
(اور بیشمار درخت) اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل (پیدا کرتا ہے)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11)

غور کرنے والوں کے لئے اس میں (قدرت خدا کی بڑی) نشانی ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

اور اسی نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا۔

وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ

اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12)

سمجھنے والوں کے لئے اس میں (قدرت خدا کی بہت سی) نشانیاں ہیں۔

وَمَا ذَرَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ

اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں (سب تمہارے زیر فرمان کر دیں)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13)

نصیحت پکڑنے والوں کے لئے اس میں نشانی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔

وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًا وَطَبَقًا

اور اس سے زیور (موتی وغیرہ) نکالو جسے تم پہنتے ہو۔

وَتَرَى الْقُلُوبَ مَوَّاجِرًا فِيهِ

اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14)

اور اس لئے بھی (دریا کو تمہارے اختیار میں کیا) کہ تم خدا کے فضل سے (معاش) تلاش کرو اور تاکہ (اسکا) شکر کرو۔

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوًا وَسِيًّا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ

اور اسی نے زمین پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے

وَأَنْهَارًا أَوْ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15)

اور نہریں اور ستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک (آسانی سے) جاسکو۔

وَعَلَامَاتٍ

اور (راستوں میں) نشانات (بنادینے)

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16)

اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ

تو جو (اتنی مخلوقات) پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17)

تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا^ط

اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گن نہ سکو

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18)

بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19)

اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واقف ہے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا

اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے

وَهُمْ يُخْلُقُونَ (20)

بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ^{صل}

وہ لاشیں ہیں بے جان

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21)

ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ^ج

تمہارا معبود تو اکیلا خدا ہے

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22)

تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ^ج

یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں خدا ضرور اس کو جانتا ہے۔

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23)

وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ^ل

اور جب ان (کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے؟

قَالُوا الْأَسَاطِيرُ الْأُولَى (24)

تو کہتے ہیں کہ (وہ تو) پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ^ل

(اے پیغمبر ان کو بکنے دو) یہ قیامت کے دن اپنے (اعمال کے) پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے

وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ^ل بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی (اٹھائیں گے)

أَلَا سَاءَ مَا يَزِينُونَ (25)

سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ان سے پہلے لوگوں نے بھی (ایسی ہی) مکاریاں کی تھیں

فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ

تو خدا (کا حکم) ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی

وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26)

اور (ایسی طرف سے) ان پر عذاب آواقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا

وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ

اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟

قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (27)

جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ

(ان کا حال یہ ہے کہ) جب فرشتے ان کی روحمیں قبض کرنے

لگتے ہیں (وہ یہ) اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے (ہوتے ہیں)

فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ

تو مطیع و منقاد ہو جاتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم کوئی بر کام نہیں کرتے تھے۔

بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28)

ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے۔

فَلَيْبُئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (29)

اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ^ج

اور (جب) پرہیز گاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے؟

قَالُوا خَيْرًا^ط

تو کہتے ہیں کہ بہترین (کلام)

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ^ج

جو لوگ نیکو کار ہیں ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے

وَلَدَارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ^ج

اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے۔

وَلِنِعْمَ دَارِ الْمُتَّقِينَ (30)

اور پرہیز گاروں کا گھر بہت خوب ہے۔

جَنَّاتٍ عِدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ^ط

وہ بہشت جاودانی (ہیں) جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ^ج

وہاں جو چاہیں گے ان کے لئے میسر ہو گا۔

كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31)

خدا پرہیز گاروں کو ایسا ہی بدلادیتا ہے۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ^ل

(ان کی کیفیت یہ ہے کہ) جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے

ہیں اور یہ (کفر و شرک سے) پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)

(اور کہتے ہیں کہ) جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ

کیا یہ (کافر) اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے انکے پاس (جان نکالنے) آئیں

أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَبِّكَ

یا تمہارے پروردگار کا حکم (عذاب) آئے؟

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33)

اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا

تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (34)

اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے انکو (ہر طرف سے) گھیر لیا

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے

نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

اور نہ ہمارے بڑے ہی (پوجتے) اور نہ اس کے (فرمان کے) بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھراتے۔

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^ج

(اے پیغمبر) اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا۔

فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (35)

تو پیغمبروں کے ذمے (خدا کے احکام کو) کھول کر پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ

أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ^ط

خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں (کی پرستش) سے اجتناب کرو۔

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ

تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ^ج

اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔

فَسِيدُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36)

سوزمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا؟

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ^ط

اگر تم ان (کفار) کی ہدایت کیلئے لپچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (37)

اور ایسے لوگوں کو کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتَ^ج

اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا سے (قیامت کے دن قبر سے) نہیں اٹھائے گا۔

بَلَى

ہر گز نہیں۔

وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38)

یہ (خدا کا) وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ

تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْمُ كَانُوا كَاذِبِينَ (39)

اور اس لئے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40)

جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اسکو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً^ط

اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لئے وطن چھوڑا ہم انکو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ^ج بِأَكْبَرَ

اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41)

کاش وہ (اسے) جانتے۔

الَّذِينَ صَدَّوْا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42)

یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ

اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)

اگر لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

(اور ان پیغمبروں کو) دلیلیں اور کتابیں دے کر (بھیجا تھا)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)

اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو (ارشادات)

لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو تاکہ وہ غور کریں۔

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھنسا دے

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45)

یا (ایسی طرف سے) ان پر عذاب آجائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ

یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے؟

فَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ (46)

وہ (خدا کو) عاجز نہیں کر سکتے

أَوْيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ

یاجب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے؟

فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ (47)

بیشک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ

کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے (بائیں کو) اور بائیں سے (دائیں کو) لوٹتے رہتے ہیں

سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48)

(یعنی) خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدہ میں پڑے رہتے ہیں۔

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ

اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی۔

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49)

اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے۔

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ

اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں۔

وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْإِهْلِينَ اتِّعِينَ^ط

اور خدا نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بناؤ۔

إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ^ص

معبود وہی ایک ہے

فَإِيَّايَ فَاتَّهَبُونَ (51)

تو مجھی سے ڈرتے رہو

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے

وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبِحَا^ج

اور اسی کی عبادت لازم ہے۔

أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52)

تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ^ص

اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں۔

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53)

پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو۔

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذْ فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54)

پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ^ج

تاکہ جو (نعمتیں) ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں

صَلَّ
فَتَمَتَّعُوا

تو (مشرکوں) دنیا میں فائدے اٹھالو

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55)

عنقریب تم کو (اسکا انجام) معلوم ہو جائیگا۔

ط
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ

اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔

تَاللَّهِ لِنَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56)

(کافرو!) خدا کی قسم کہ جو تم افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی۔

ط
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57)

اور یہ لوگ خدا کے لئے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں (اور) وہ ان

سے پاک ہے اور اپنے لئے (بیٹے) جو مرغوب (دل پسند) ہیں۔

وَإِذْ أَبَشَرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلًّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58)

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی (کے پیدا ہونے) کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ

(غم کے سبب) کالا پڑ جاتا ہے اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندوز ناک ہو جاتا ہے

ج
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ

اور اس خبر بد سے (جو وہ سنتا ہے) لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے

ط
أَيُّمَسِّكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ

(اور سوچتا ہے) کہ آیا زلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔

أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)

دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ^{صل}

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لئے بری باتیں (شایان) ہیں۔

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى^ج

اور خدا کو صفت اعلیٰ (زیب دیتی ہے)

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60)

اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهِمْ دَابَّةً

اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے

وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى^{صل}

لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیئے جاتا ہے۔

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً^{صل} وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ (61)

جب وہ وقت آجاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ

اور یہ خدا کے لئے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں

وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى^{صل}

اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو (قیامت کے دن) بھلائی (یعنی نجات) ہوگی۔

لَا جَزْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62)

کچھ شک نہیں کہ ان کیلئے (دوزخ کی) آگ (تیار) ہے اور یہ (دوزخ میں) سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔

تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے تو شیطان نے انکے کردار (ناشناستہ) ان کو آراستہ کر دکھائے

فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)

تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور وہ ان کے لئے عذاب الیم ہے۔

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ

اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لئے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تو اسکا فیصلہ کر دو

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64)

اور (یہ) مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس مرنے کے بعد زندہ کیا۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65)

بے شک اس میں سننے والوں کے لئے نشانی ہے۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

اور تمہارے لئے چار پايوں میں بھی (مقام) عبرت (وغور) ہے

نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا

کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں

سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ (66)

جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا^ط

اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی (تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو) کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق (کھاتے ہو)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)

جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کیلئے ان (چیزوں) میں (قدرت خدا کی) نشانی ہے

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ

اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ

أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68)

پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا۔

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

اور ہر قسم کے میوے کھا۔

فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا^ج

اور اپنے پروردگار کے صاف راستوں پر چلی جا

يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ^ط

اس میں لوگوں (کے کئی امراض) کی شفا ہے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69)

بیشک سوچنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ

اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا

اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور (بہت کچھ) جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ قَدِيرٌ (70)

بے شک خدا (سب کچھ) جاننے والا (اور) قدرت والا ہے۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

اور خدا نے رزق (دولت) میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہی نہیں کہ (سب) اس میں برابر ہو جائیں۔

أَفَبِعِزْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71)

تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لئے عورتیں پیدا کیں

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کئے

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ^ج

اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ (72)

تو کیا یہ بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا

اور خدا کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (73)

اور نہ (کسی اور طرح کا) مقدور رکھتے ہیں۔

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ^ج

تو (لوگو) خدا کے بارے میں (غلط) مثالیں نہ بناؤ

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (74)

(صحیح مثالوں کا طریقہ) خدا ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ

عَبْدًا أَمَلُو كَأَلَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

ایک غلام ہے جو (بالکل) دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔

وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا

اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے (بہت سا) مال طیب عطا فرمایا ہے۔

فَهُوَ يُفْقِنُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا^ص

اور وہ اس میں سے (رات دن) پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے

هَلْ يَسْتَوُونَ^ج

تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ (ہرگز نہیں)

الْحَمْدُ لِلَّهِ^ج

الحمد لله

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75)

لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ

رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

دو آدمی ہیں ایک ان میں سے گونگا (اور دوسرے کی ملک) ہے (بے اختیار و ناتواں) کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا

وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمَانٌ وَجِهَةٌ لِيَأْتِ بِالْحَبِيرِ^ص

اور اپنے مالک کو دو بھر ہو رہا ہے وہ جہاں اسے بھیجتا ہے (خیر سے کبھی) بھلائی نہیں لاتا۔

هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (76)

کیا ایسا (گونگا بہرا) اور وہ شخص جو (سنتا بولتا اور) لوگوں کو انصاف

کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں؟

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^ج

اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے

وَمَا أَمُرُ السَّاعَةَ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ^ج

اور (خدا کے نزدیک) قیامت کا آنایوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ (اس سے بھی) جلد تر۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77)

کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78)

اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل (اور ان کے علاوہ اور) اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو۔

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے (اڑتے رہتے) ہیں؟

مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ^ظ

ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79)

ایمان والوں کے لئے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

اور خدا ہی نے تمہارے لئے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لئے ڈیرے بنائے

تَسْتَخِفُّوهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ^٧

جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام لاتے ہو۔

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاوَمِتَاعًا إِلَى حِينٍ (80)

اور ان کی اون اور ریشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں (بناتے ہو جو) مدت تک (کام دیتی ہیں)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقَ ظِلَالًا

اور خدا ہی نے تمہارے (آرام کے) لئے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْمَانًا

اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابًا يَلْقَى تَقِيكُمْ الْحَرَّ

اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں

وَسَرَابًا يَلْقَى تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ^ج

اور (ایسے) کرتے (بھی) جو تم کو (اسلمہ) جنگ (کے ضرر) سے محفوظ رکھیں۔

كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81)

اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرماں بردار بنو۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (82)

اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو (اے پیغمبر) تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا

یہ خدا کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر (واقف ہو کر) ان سے انکار کرتے ہیں

وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83)

اور یہ اکثر ناشکرے ہیں۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ (یعنی پیغمبر) کھڑا کریں گے

ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا لَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84)

تو نہ تو کفار کو (بولنے کی) اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کئے جائیں گے۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ

اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے

فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا لَهُمْ يُنظَرُونَ (85)

تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائیگی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا

اور جب مشرک اپنے (بنائے ہوئے) شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شَرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ^{صل}

پروردگار! یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔

فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (86)

تو وہ (ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور) ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔

وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ^{صل}

اور اس دن خدا کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (87)

اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَا لَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) خدا کے راستے سے روکا ہم انکو عذاب پر عذاب دیں گے

بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (88)

اس لئے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ^ص

اور (اس دن کو یاد کرو) جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے

وَجُنُودًا أَعْلَىٰ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ^ج

اور (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

اور ہم نے تم پر (ایسی) کتاب نازل کی ہے کہ (اس میں) ہر چیز کا بیان (مفصل) ہے

وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (89)

اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو (خرچ سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ^ج

اور بے حیائی اور نامعقول کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے

يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

(اور) تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذْ عَاهَدْتُمْ

اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو۔

وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91)

اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غُرُهًا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کا تا پھر اس کو توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ

کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔

إِنَّمَا يَجِلُّوكُمْ اللَّهُ بِهِ

بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے۔

وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92)

اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا

وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ^ج

لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

وَلْتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (93)

اور جو عمل تم کرتے ہو (اس دن) ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ (لوگوں کے) قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑاجائیں

وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ^ص عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے راستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ اچکھنا پڑے

وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94)

اور بڑا سخت عذاب ملے۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا^ج

اور خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے (اس کو مت بیچو اور) اسکے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (95)

(کیونکہ ایفائے عہد کا) جو (صلہ) خدا کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔

مَا عِنْدَكُمْ يُنْفَدُ^ص

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ^ط

جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے (کہ کبھی ختم نہیں ہوگا)

وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96)

اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً

جو شخص نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہو گا تو ہم اس کو (دنیا میں) پاک (اور آرام کی) زندگی سے زندہ رکھیں گے

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)

اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)

اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99)

کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا۔

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100)

اسکا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اسکے

(وسوسے کے) سبب (خدا کے ساتھ) شریک مقرر کرتے ہیں۔

وَإِذْ ابْتَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ

اور جب ہم کوئی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے

خوب جانتا ہے تو (کافر) کہتے ہیں کہ تم تو (یونہی) اپنی طرف سے بنالاتے ہو۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101)

حقیقت یہ ہے کہ ان میں کثر نادان ہیں۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا

کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لیکر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ (قرآن) مومنوں کو ثابت قدم رکھے

وَهُدَىٰ وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ (102)

اور حکم ماننے والوں کے لئے تو (یہ) ہدایت اور بشارت ہے۔

وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) کو ایک شخص سکھا جاتا ہے۔

لِسَانَ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ (103)

مگر جس کی طرف (تعلیم کی) نسبت کرتے ہیں اسکی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ

یہ لوگ خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو خدا ہدایت نہیں دیتا

وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104)

اور ان کے لئے عذاب الیم ہے۔

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

جھوٹ افتر تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ (105)

اور وہی جھوٹے ہیں۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ

جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

وہ نہیں جو (کفر پر زبردستی) مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کیساتھ مطمئن ہو۔

وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا

بلکہ وہ جو (دل سے اور) دل کھول کر کفر کرے

فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)

تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہو گا۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

یہ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا۔

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107)

اور اس لئے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَ لَهُمْ^{صل} وَأَبْصَارِهِمْ

یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے

وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (108)

اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ (109)

کچھ شک نہیں کہ یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا

پھر جن لوگوں نے ایذا میں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا

تُمْ جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا

پھر جہاد کئے اور ثابت قدم رہے

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ (110)

تمہارا پروردگار ان کو بیشک ان (آزمائشوں) کے بعد بخشنے والا (اور ان پر) رحمت والا ہے۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَادِلٍ عَنْ نَفْسِهَا

جس دن ہر تنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا

وَتُؤَنِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111)

اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً

اور خدا ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے

كَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

کہ (ہر طرح) امن چین سے بستی تھی ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا

فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ

مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی

فَأَذَاتُهَا اللَّهُ لِبَاسٍ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)

تو خدا نے انکے اعمال کے سبب انکو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر (ناشکری کا) مزہ چکھا دیا۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ

اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113)

سوان کو عذاب نے آپیڑ اور وہ ظالم تھے۔

فَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

پس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ

وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114)

اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْجُنُزِيرِ

اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے

وَمَا أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے (اس کو بھی)

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (115)

ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطیکہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا

حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيُفْتَنُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

اور یوں نہ جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ دیا کرو کہ

یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔

إِنَّ الَّذِينَ يُفْتَنُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116)

جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہو گا۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117)

(جھوٹ کا) فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر (اسکے بدلے) ان کو عذاب الیم بہت ہو گا۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ^ص

اور جو چیزیں ہم تم کو پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118)

اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمَلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119)

پھر جن لوگوں نے نادانی سے براکام کیا پھر اسکے بعد توبہ اور نیکو کار ہو گئے تو تمہارا پروردگار (انکو) توبہ کرنے اور نیکو کار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور (ان پر) رحمت کرنے والا ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا

بیشک ابراہیم (لوگوں کے) امام (اور) خدا کے فرمانبردار تھے۔ جو ایک طرف کے ہو رہے تھے

وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120)

اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

شَاكِرًا لِالْأَنْعَامِ^ج

اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔

اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (121)

خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور (اپنی) سیدھی راہ پر چلایا تھا۔

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً^ط

اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی

وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122)

اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا^ط

پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)

اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

إِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ^ج

ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124)

اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ^ط

(اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ^ج

اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ^ط

جو اس کے راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے۔

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125)

اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی

وَلَيْنَ صَبْرُكُمْ هُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (126)

اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت اچھا ہے۔

وَاصْبِرْ وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

اور ان کے بارے میں غم نہ کرو

وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (127)

اور جو یہ بداندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہونا

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)

کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکو کار ہیں خدا ان کا مددگار ہے۔



© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com